- For all profit bearing/Savings Account/Islamic Term Deposit Receipt (the "I-TDR") of local or foreign currency, the relationship between Meezan Bank Ltd. (the "Bank") and the customer shall be based on the Islamic principles of Mudarabah, where the Customer is the Rab ul Maal and the Bank is the Mudarib. The Bank as the Mudarib may invest or disinvest, at it so lod discretion, money /funds received by it from the Customers in any of the businesses (the "Business") which the Bank deems fit with the approval of Bank's Resident Shariah Board Member (the "RSBM") or /Shariah Board of the Bank(the "Shariah Board"). There could be several saving schemes/products and additional features in respect of such schemes and I-TDRs as may be applicable from time to time which shall be stipulated in product brochures and at the website of the Bank at www. meezanbank.com (the "Bank's website"). Funds deposited by the Customer with the Bank in current Meezan account product of Bank are on the basis of Qard and therefore shall be payable by the Bank upon demand without any profit. The provisions relating to profit in these terms and conditions shall not be applicable to the current accounts. The Bank may at its discretion utilize such funds as it deems fit with the approval of RSBM.
- fit with the approval of RSBM.

 The Bank, as Mudarib, will share in the profits of the savings account/product based on a predetermined percentage of the Business's Distributable Profit (the "Mudarib Share"). The "Distributable Profit of the Business' is calculated as the profit earned on depositor funds i.e., income of the Business, minus: (i) all direct expenses, write-offs, losses of investments, and provisions as per SBP instructions and Shariah Board / RSBM guidelines, (ii) allocations to the Profit Equalization Reserve (the "PER"), as and when required; and (iii) Bank's share as an investor. The Customer will receive their share of the Distributable Profit of Business on the basis of predetermined weightages, after deduction of the Mudarib Share, and the Investment Risk Reserve (the "IRR") as and when required. The Mudarib Share applicable to profits may vary periodically in accordance with SBP and SB / RSBM guidelines. Updated information on the Mudarib Share, weightages, PER and IRR policies is available at all Bank branches and on the Bank's website
- vary periodically in accordance with SBP and SB / RSBM guidelines. Updated information on the Mudarib Share, weightages, PER, and IRR policies is available at all Bank branches and on the Bank's website.

 3. The Bank may at its option also participate in the Business as an investor. The Bank's share in profit as an investor will be in proportion to the Bank's equity invested in any pool before distribution of profit between Rab-ul-Maal and Mudarib. All the customers/I-TDR Holders shall be assigned weightages (profit distribution ratio for weighted average investment) based on the features of the saving scheme/product and/or I-TDR(s) held by the Customers, such as tenure, profit payment options and other applicable features for the purposes of calculation of profit. The weightages applicable to all saving schemes/products/I-TDRs for succeeding month shall be announced at the end of every month and shall be made available at Customer's request and/or at Bank's website. The weightages shall be announced at least 3 working days before the beginning of a month concerned and shall not be changed during the month.
- 4. In case of Savings Accounts, unless otherwise indicated by the Bank, profit would be applied on monthly basis. All accounts are finalized at the end of the month by the Bank for calculation of profit or loss. Profit calculation method used as per the deposit product specification are on a daily product basis (i.e. daily day end balance maintained in such accounts calculated with the respective weightages applicable). Such method associated with the respective deposit products is mentioned in the product brochure as well as available on Bank's website.
- 5. In the event of loss on either the capital or revenue account in respect of the business, all investors of the investment pool shall share in such loss on a pro rata basis proportionately as per their investments. However, if after due consideration of the matter, the RSBM/Shariah Board determines that the loss incurred by the Business was caused by the gross negligence or willful default of the Bank, the Customers will not be liable to share in such loss.
- 6. Redemption /withdrawal of any amount from the I-TDRs/Savings Accounts by the customer shall mean the transfer of its respective share from the Business along with all related risks and rewards as such redemption shall be on the basis of the principal value of the investment, subject to the provisions in respect of Probli in Clause 2 and Loss in Clause 5 bereof.
- respect of Profit in Clause 2 and Loss in Clause 5 hereof.

 The I-TDRs issued by the Bank shall be governed by these terms as well as the Terms and Conditions for Islamic Term Deposits (the "I-TDR Terms"). To the extent that these terms are not inconsistent with the I-TDR Terms, they shall apply to the same extent and effect as if the I-TDR Holder is a Saving Account Holder of the Bank and the funds invested in the I-TDRs are considered as amounts available in the Saving Accounts of the I-TDR Holders.
- 3. No profit will be paid on Current Accounts (Pak Rupees/Foreign Currency) as these are based on Qard.
- 2) In case of any change in the communication addresses and/or number (including mailing address, electronic mail (the "Email"), telephone/mobile number(s), etc.), (the "Communication Details"), the Customer shall immediately notify the updated Communication Details to the Bank. The Customer shall be solely responsible to get his/her Communication Details updated for each of his/her Account(s) and Service(s). The Bank shall not be liable for any wrong, incorrect, and/or non-delivery of communication and/or any losses suffered by the Customer, as a result of the Customer failing to notify the Bank of the change in his/her Communication Details.
- Zakat shall be deducted from Customer's saving account(s) and I-TDR(s) on individual investment basis
 under relevant Zakat & Usher law unless exempted in accordance with the provision(s) of the relevant law.
- 11. The Customer authorizes the Bank and gives unconditional consent to share personal data and details/information/documents of Customer, its Accounts and transactions with any court, law enforcement agency, tax and/or other governmental authority and consultants/service providers of Bank without requiring any further consent/prior intimation to the Customer. The Bank shall not be liable for any loss or damages suffered by Customer due to disclosure of such information
- or damages suffered by Customer due to disclosure of such information

 The Customer may perform debit transactions through Bank's official Internet Banking and Mobile Banking application. Cash withdrawals can also be made through cheque and Debit Cards supplied by the Bank upon specific written request of the Customer. Cheques and other payment instructions are to be signed as per specimen signature supplied to the Bank and alterations therein are to be authenticated by the Customer's complete signature. Any stop payment instructions shall be entertained by the Bank if the instrument is not encashed or debit entry is not made from Customer's Account. All cash withdrawals in a currency /currencies other than Pakistan Rupees shall be subject to the availability officient currency notes with the Bank at the time of withdrawal. In case of bouncing of cheque(s) for multiple times, whether on various grounds or otherwise, the Bank may at its discretion close any Account(s) with immediate effect by sending an intimation letter to the Customer. Any funds lying in such Account shall be sent to Customer in accordance with clause 18 below
- 13. If the Account is opened in the names of two or more persons, the balance to the credit thereof at any time shall belong to the Customers jointly. Such persons shall be jointly and severally liable for all liabilities incurred on the Account and the Services obtained by the Customers from Bank.
- 14. Accounts with "Either or Survivor" operating instructions can be operated by any authorized signatory without the need of joint signatures/approval of all Account Holders. Herein, Account operations include execution of transaction(s) of whatsoever nature and/or obtaining Account related services such as I-TDR, locker, debit card, etc. Such transaction(s) and/or service(s) will be binding on all Account Holders. However, in order to close such Account, signature of all Account Holders would be required.
- 15. In case of a Joint Account, whether with either or survivor operating instructions or otherwise, in the event of the death of any of the Customers, the balance shall be disposed of in accordance with the law/regulation prevalent at that time. The Bank shall not be liable for any transactions, loss or damage that arise as a result of Bank acting in relation to the account prior to the date on which the notice of the Customer's death is received by the Bank in writing.
- Customer's death is received by the Bank in writing.

 16. Dormant or In-Operative Account" means the account in which no customer-initiated transaction (debit or credit) or activity (e.g. login through digital channels) has taken place during the preceding one year. Debit/Credit of Bank's system generated transactions of money in the Dormant Account(s) shall not reactivate the Dormant Account. Similarly, credits received in Account on account of inward remittances, clearing, cash deposits or other such transactions shall not reactivate the Dormant Account. Withdrawals from the Dormant Account shall be subject to the approval of the relevant Branch Manager/Manager Operations or in accordance with the Bank's prevailing policies on the subject. Dormant Account of a Customer shall be reactivated by the Bank upon receiving Customer's specific request (all Customers in case of joint operating instructions) from registered channels and also fulfilling other formalities as required by the Bank for reactivation of Customer's Dormant Account. In case an Account remains inoperative for fifteen (15) years, the funds lying in the Dormant Account shall be surrendered to the SBP in compliance of prevailing rules and regulations. Accordingly, the Mudarabah agreement shall be considered terminated on 31st March of the year of surrendering such funds to SBP and after the conclusion of this activity, the Bank shall close the Account.
- 17. The death or bankruptcy of a Customer should be immediately informed to the Bank irrespective of the nature of Account and/or Account operating instructions. Upon receiving notice of the demise of a Customer and/or becoming aware of the fact from any reliable source, the Bank shall immediately mark the Account as deceased and also shall not be obliged to allow any operation and/or withdrawal except on the production of evidence of entitlement or right to operate the Account as per Bank's satisfaction.
- 18. Bank reserves the right, at its sole discretion, to close Customer's Account without any reason/cause by giving 15 days advance written notice. If the funds available in the Account are not withdrawn within the notice period, then after expiry of 15 days, the available balance in the Customer's Account will be sent through Pay order at the mailing address of Customer available in Bank's record. Furthermore, the Bank may also close the Account(s) having zero balance for a continuous period of 03 months.

- ۔ سیو تگزاداؤنٹ کی صورت میں منافع کا طلاق بابانہ بنیاری ہوگا،جب تک چیک بصورت دیگر نشاندی نہ کرے۔ تمام اکاؤنٹس پر نفخ و انتصان کے حباب کتاب کو صبنے کے آخر میں حتی شکل دی جائے گی۔ منافع کے شارکا طریقہ کار، جے ڈیازٹ پر دؤکش کی خصوصیات کے مطابق استعمال کیاجائے گا، دوزانہ کی بنیاد پر متح کر آئی گئی رقوم کی بنیاد پر معود گاران اکاؤنٹس میں دوزانہ دن کے افتحالی میلٹس کو ان کے ستاند تابل اطلاق اوزان کے مطابق شار کیا جائے گا) ہر متحافظہ پردؤک سے متحلق طریقہ کار پردؤکش کے معلومائی کتابجوں اور اس کے ساتھ میزان جینگ کی ویب سائے۔ پر معلقہ پردؤک میں میں میں میں میں کہ معلومائی کتابجوں اور اس کے ساتھ میزان جینگ کی ویب سائے۔
- . کار وباریش نقصان کی صورت میں چاہے وہ سرمایہ اکاؤنٹ میں ، سرمایہ کار کا پول میں شامل تمام سرمایہ کار ایکا ایک سرمایہ کار کاکے تناسب سے اس نقصان میں حصہ دار ہول گے۔ تاہم معالمہ کی قراروا تھی تختین کے بعدا اگر بزیڈنٹ شریعہ پورڈ ممبر اُٹر کید پورڈ اس بات کا فیصلہ کرے کہ کار وباری نقصان بیک کی مجموعی فظت یا مجمد آگوتائی کی وجہ ہے ہوا ہے توالی صورت میں صارف اس میں حصہ دار مجیس ہوگا۔ کہ کار وباری نقصان بیک کی مجموعی فظت یا مجمد آگوتائی کی وجہ ہے ہوا ہے توالی صورت میں صارف اس میں حصہ دار مجیس ہوگا۔
- صارف کی جانب ے TDRs/سید تکر کا کا بھی اور ہو ہے۔ اور ہو درسیاں صورت میں صدروں میں انہوں۔ صارف کی جانب ہے I-TDRs/سید تکر اکا بھی سے متعلق سمی محتمی قسم کے افذکاک (Redemption) کا مطلب کار وہار میں اس کے متعلقہ محتمیں بھول تمام متعلقہ عدشات اور فوائد کی منتقی ہوگا کیو تکہ یہ افذکاک سرمایہ کاری کی اصل مالیت کی بنیاد پر ہوگا جو شراائط و صوابط کی منافع سے متعلقہ شق2 ور نفصان سے متعلقہ شق 5 سے شروط ہوگا۔
- . بینک کی جانب ہے جاری کر دود TDR ایس شرائطا دران کے ساتھ ساتھ اسلامکٹر مرڈیازٹس کی شرائط (''I-TDR Terms'') کا مجھی اطلاق ہو گا۔ جب تک ان شرائط کی I-TDR Terms کے ساتھ عدم مطالبقت نہوں پہ کیاں طور پر مونز اورای طرق قابل اطلاق ہوں کی چھے کید I-TDR جو لڈر بینک کا کاکاؤٹٹ ہولڈر ہواور I-TDR میں گی سریایہ کاری کی رقم کو I-TDR ابولڈر کے سیونگز اکاکوٹٹ میں موجودر قم تصور کیاجائے گا
 - 8. كرنىڭ اكاۋنش (پاكستانى روپ/غىرىكىكى كرنى) كركۇ كى منافع ادانىيى كىياجائے گاكيول كدية قرض پر منى ہوتے ہیں۔
- ا سادت کے رابط کے چنوں اور ایم آخر وی است کا پیدہ الیکٹر انک میل (" ای میل") ، ٹیلی فون امروپا کل نمبر (ز)وغیرہ)،(" رابطے کی تصیات") ، بیل فون امروپا کل نمبر (ز)وغیرہ)،(" رابطے کی تصیات") ، بیل می بھی تبدیلی کل صورت میں صادف اپنے ہم اکاؤنٹ (اکاؤنٹر) اور فدم سر (فعالم کے گا۔ صادف کی جانب سے اور فدر اللہ میں میں میں میں میں کہ جائے میں گائے گا میں میں میں میں میں میں میں میں کہ جائے میں گائے گا میں میں میں میں میں میں میں میں کہ جائے گا گاؤہ تحقیر درست معلومات کی فرائی میں معلومات فراہم نہ کرنے اور ایا صادف کو ہوئے والے نقصانات فراہم نہ کرنے اور ایا صادف کو ہوئے والے نقصانات کے لئے ذرور اور میں ہوگا ہے۔
-)1. زگرة کی کوتی صارف کے سیونگزاکاؤنٹ (اکاؤنٹ (اکاؤنٹر) اوراسلاکٹ ٹر مؤیازٹ رئسیش ((I-TDR(s) متعلقہ زگرة اور عشر آرؤینش کے تحت انفرادی سرماید کاری کی بنیاد پر کی جائے گی، جب تنک کہ متعلقہ قانون کی مشق استقواما صل شدہو۔
- 1. صارف بینک کواس بات کامی اور میتا اور غیر مشروط اجازت دیتا ہے کہ بینک صارف کا مزید کریا جازت کے اجھنگی اطلاع دیئے گغیر اس کے ذاتی کو انتخاب اس کے ذاتی کو انتخاب کی میتا سے اس کے انتخاب کی تعلق اس اور اس کے ناتیات کی میتا سے انتخاب کی تعلق اس اور اس کے ناتیات کی تعلق اس کی تعلق اس کی تعلق اس کی تعلق اس کی تعلق کی ت
- 13. اگر اکاؤنٹ دویادویے زائد افراد کے نام پر محلوایا گیا ہو تواس میں کسی بھی وقت جمع کر انگی گیار قم مشتر کہ طور پر ان تمام صارفین کی ملکیت سمجھی جائے گا۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈر مشتر کہ اور افراد کی طور پر بیٹک کی جانب ہے اس کو فراہم کردو اکاؤ نئس اور سروسز کے سلیط میں تمام واجبات کے پاینر ہول گے۔
- 10. ودکو گیا کیا یا بی اینده و است والے اکاؤنٹرس کی مجی مجاز حقوظ کننده کی جائب سے استعمال کئے جاسکتے ہیں اور انہیں چالے نے کے تمام اکاؤنٹ جو لڈرز کے مشتر کر وحقوظ منظوری کی شرورت میں ہے۔ بیاسا اکاؤنٹ چالے نئیس کی مجموفی فرامز نظیش افرامز بیشتر کا ادر ایا اکاؤنٹ سے متعلقہ خدمات چیسے کہ TTD - امال کروٹیٹ کارڈو غیر وشال ہیں۔ تمام اکاؤنٹ بولڈرز ان فرانز بیشش (فرامز بیشتر)اور اخدمت (خدمات) کے لئے وحد دار ہیں۔ جائم لیسے اکاؤنٹ کو بند کروانے کے لئے تمام اکاؤنٹ بولڈرز کے وسخط در کاربوں گے۔
- قد والدی آرای و قال باغیر مستعلی اکاؤنٹ " کا مطلب ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں صارف کی جانب ہے گزشتہ ایک سال سے کوئی از پیکشن (ڈیبد یا کریڈٹ) یا مسر کری (چید کہ دیکھنٹر کے ذرائع کی ان کرنے ہوئے کی مالی مستعلی اکاؤنٹ کی ہوئے ہیں گئی ہوئے بینک کی جانب سے سٹم جزیشر ان نزشتر سے ڈیسر کرنے کرنے سے تمیر فعال کاؤنٹ کی ہوئے ہیں گئی ہوئے کہ بینک کی جانب سے سٹم جزیشر اکاؤنٹ کی ہوئے کہ میں اور قدیم کی موجود و پالیسیوں ہوگا۔ کی موجود و پالیسیوں ہے میں اور اکاؤنٹ کی روز کا موجود کی ہوئے کہ اس کا موجود و پالیسیوں سے مشروط ہوگی سارف کو (مشتر کہ طور پر اکاؤنٹ کی موجود و پالیسیوں سے مشروط ہوگی سار کہ اور کہ کے خوالم کی موجود و پالیسیوں سے مشروط ہوگی سار کہ اور کہ کی ایک خوالم کی موجود و پالیسیوں کی موجود و پالیسیوں کے گئی کی جانب سے فرائم کے گئی قارم پر مقر روظ ہوئے کی موجود کی موج
- 17. صدارف کے انتقال یاد یوالیہ بن کی اطلاع اکاؤنٹ کی نوعیت اور / ہا اکاؤنٹ کے استعمال کی ہدایات سے قطع نظر بینک کو فوری طور پر دی جائی جا ہے۔ اگر چیک کو کی اکاؤنٹ ہولڈر کے انتقال کی اطلاع موصول ہواور ایا کی معتبر ذر سیج ہے اس کا تعلی ہو جائے، ایس صورت بین ہینگ اس اکاؤنٹ کو سرحوم کا اکاؤنٹ قرار دے دے گاور اس اکاؤنٹ ہے کی بھی تھسم کی سرگر کی اور ایر قم نکلوانے کی اجازت نمیس دے گاتاہ قتیکہ چیک کو ایس صورت حال میں اکاؤنٹ کا استحقاق بیا اکاؤنٹ چیانے کے افقیار کا تعدیق نامہ موصول نہ ہو، جے چیک کائی تصور کر تاہو۔
- 1. بینک اپنی صوابد میر یہ کو کی وجہ اجوازیتا نے بغیری 5 اور کا ایوان کے اور کا اور میں معاور سے بیستان اور کراور مار کے دوران اکاؤنٹ ٹیل موجود و فیز زئیمی لگالے جاتے ہو 5 اور ان کے اختیام پر صارف کے اکاؤنٹ میں وستاب بینٹن بینک کے ریاز ڈیش موجود صارف کے مینگ ایڈر لیمی پر نے آرڈر کے ذریعے مجتبی دیاجائے گا۔ مزید برآن، بینک وہ اکاؤنٹ (اکاؤنٹش) مجبی بند کر سکتا ہے جس کا بیلنس مسلس 3 ماہ

تك صفرهو

- The Customer may provide a written request on Bank's prescribed form to close his/her Account. Such request shall be entertained if the Account is free from all restrictions as per Bank's policy and related regulations. Once an Account is closed, all the Services associated with the Account will automatically
- stand terminated.

 The Bank reserves the right to block operations of Customer's Account(s) in case of any suspicious/
 fraudulent transaction(s) and/or in compliance of policies of the Bank, all prevailing laws, instructions
 from governmental agencies, SBP's regulations, rules, directions, circulars, decrees, by-laws applicable to
 the Bank, RSBM/Shariah Board guidelines, dispute by joint accountholder(s), and also due to any reason/
 cause where the Bank deems fit to block the Account(s) without any necessary intimation to the Customer.

 The Account operations may be restored by the Bank after the Bank is completely satisfied with such
 restoration. The Bank shall not be liable for any loss or damage that may arise due to Customer's Account (s) being blocked by the Bank.
- The Customer undertakes that he/she will only use the Account for Shariah-compliant activities or transactions and shall not conduct any Shariah non-compliant activity or transaction through this Account.
- The ATM/Debit/Charge Card (the "Card") represents a Shariah- Compliant Business entity and shall not be in any way used for purchase of Shariah non-compliant products or services (both locally and internationally). The declaration of a product or service as Haram by the RSBM/Shariah Board shall not be challengeable by the Customer. The Bank reserves its right to discontinue the Card Service and/or Business relationship with the Customer if non-compliance is encountered.
- The Card shall only be used by the Customer personally and is not transferable. If the Customer authorizes any other person to use his/her Card, despite this prohibition, then the Customer shall be exclusively responsible for all risks and consequences; this includes usage of Card at ATM, POS terminals, internet and/or any other manner whatsoever.
- and/or any other manner whatsoever.

 In the event of loss or theth of the card or cheque book, the customer shall immediately notify the Bank for such loss and/or by making contact to Bank's 24/7 Call Centre at (+92-21) 111-331-331 and (+92-21) 111-331-332 (the "Call Center") for the purpose of reporting loss/theft and stop payment of scheque/deactivation of the Card. The Customer may also deactivate his/her Card through Bank's SMS Banking Service, Internet Banking, and Mobile Banking application. The Customer shall be liable for any unauthorized use of the lost or stolen cheque/ Card in case of delay in notifying the Bank of the loss or theft of the Cheque / Card.
- The Customer consents that Bank is entitled to communicate with the Customers to market its products Ine Customer consents that Bank is entitled to communicate with the Customers to market its products and services via the SMS, E-mail(s) and other channels. Customers acknowledges that SMS is desired, and Internet Banking is dependent on the telecommunications infrastructure, connectivity and services within Pakistan. Customer accepts that timelines of alerts sent by the Bank will depend on factors affecting the telecommunications services. Neither the Bank nor its Service Providers shall be liable for non-delivery or late delivery of alerts, error, loss, distortion in transmission of and wrongful transmission of alerts to the Customer
- Cross border (outward) transactions are not allowed from Asaan Account, except permitted card based international transactions
- international transactions.

 The Customer expressly acknowledges that he/she is fully aware and cognizant of the various risks (e.g. technical forgery, phishing, skimming, programming of bogus Email address etc.) inherent and associated with Alternate Distribution Channels and fraudulent activities arising from and out of such transmissions or communications and is fully prepared to accept such risks. The Bank shall not be liable for any risks related thereto and the Customer hereby fully, irrevocably and forever waives, releases, discharges, relinquishes the Bank from any and all claims, obligations and rights whatsoever and howsoever arising, that the Customer may have against the Bank (if any) which arises or may arise as a result of the Bank acting on any notifications received by the Customer under these Terms and Conditions through electronic compunications. electronic communication.
- electronic communication.

 The Bank shall issue Account statements (the "Account Statement") to the Customer at such intervals required by Customer or as per directives issued by SBP or make them available through Internet Banking and/or Email to the Customer. Customer shall inform the Bank regarding any discrepancy in Account Statement within forty-five (45) days from the issuance date of Account Statement, otherwise, the Account Statement would be considered as correct and accepted by the Customer. The Bank may, at its sole discretion, reverse the transaction and/or charges on the basis of the relevant documentation and investigation of the disputed transaction.
- In case, Account Statement is sent through Email, the Bank will not be held responsible for any misuse of the information so relayed, incomplete information, use of Email account by unauthorized user, if Email containing Account Statement goes into junk mails or gets bounced back/could not be delivered due to any $reasons\ what so ever\ in\ nature\ including\ Email\ inbox\ being\ full,\ server\ unavailability,\ etc.$
- The Account can only be opened by the customer upon depositing the stipulated minimum initial deposit
- The maximum monthly amount of debit and credit balance limit in the Account shall be as per Bank's prevailing Key Fact Statement available in branches and at Bank's website. Any transaction exceeding the maximum monthly limit shall not be allowed.
- The Bank may, without any further express authorization from the Customer, debit any account of the Customer maintained with the Bank for all expenses, fees, commissions payable by the customer, including charges mentioned in Schedule of Charges, unless exempted by Law, SBP/other regulatory 32. bodies
- A customer can open only one Asaan Account (Joint or Single).
- For security reasons, international/overseas transactions requiring physical presence of Card (such as POS, ATM, cash withdrawals, etc.) are disabled on Cards. Customer can enable/disable these international transactions through Bank's Call Center. The international transactions which do not require physical $presence\ of\ Card\ (such\ as\ e-commerce,\ etc.)\ are\ enabled\ by\ default\ for\ international\ transactions.$
- presence or Card (such as e-commerce, etc.) are enabled by default for international transactions. The Bank may, at any time, with prior intimation to Customer, revise and/or change any of these Terms and Conditions and/or the features or Services pertaining to the Account(s) including without limitation, the charges leviable in respect of the Services in accordance with Schedule of Charges which the Bank deems appropriate in its discretion. Such revisions and/or changes shall be effective from the date specified by the Bank and will be notified to the Customer(s) in 30 days advance notice either through SMS, mail, Email or by affixing a notice to that effect at a conspicuous place within the premises of the Bank's concerned branch(es) or at Bank's website. The Customer agrees that notification in any of the said modes including display at Bank's website shall be deemed to have been duly communicated and received by the Customer. If the Customer does not agree with the revised terms, the Customer are part terminate relationship with the Bank before the effective date of such revisions. The Customer acknowledges that continuation of his/her relationship with the Bank after effective date of revisions shall be deemed his/her unconditional acceptance of the revised terms and conditions, without seeking Customer's consent on unconditional acceptance of the revised terms and conditions, without seeking Customer's consent on such revision; hence the Customer hereby unconditionally gives his consent/agreement to Bank's unilateral right of revision/change/amendment in Terms & Conditions in the manner.
- All funds deposited in the Account to be opened pursuant to this Account Opening Form and all transactions in relation thereto will be governed by the Terms and Conditions for Accounts and Services, Policies of the Bank, and/or all prevailing laws, SBP's regulations, rules, directions, circulars, decrees, bylaws applicable to the Bank and all amendments that may be made from time to time, provided that such laws do not contradict the Islamic Shariah. In case of any contradiction, the rules of Islamic Shariah as per the directives of the RSBM/Shariah Board of the Bank shall prevail.
- Subject to clause 18 of account closure, if the due profit and/or account balance amount is less than Rs. 100/- or equivalent, then I/we authorize the Bank to donate the amount to Bank's approved charitable organizations on my/our behalf (having Shariah-compliant mechanism in place to distribute charity as per Shariah principles)
- Snarian principies).

 For Savings Accounts/I-TDRs only: I/we also agree to enter into the joint pool with all Account Holders on the basis of Shirkat-ul-Aqd, and into Mudarabah with the Bank to participate in profit and loss of the pool subject to the Terms and Conditions mentioned above. In case of early exit from Mudarabah based investments i.e., redemption/encashment of Saving Accounts/I-TDRs and payment of applicable profit, both the existing Saving Accounts/I-TDR holders and Customer shall waive any of their remaining rights and return and shall be deemed to have implicitly exchanged mutual relief from commitment (Mubara ah) for any aspects that cannot be practically catered for.

- صارف کواپناکاؤٹٹ بند کروائے کے لئے بیٹک کے مقررہ وفار مریا ایک تحریر کی درخواست بھی کروانی ہوگی ۔ ایک درخواست پر صرف اس صورت میں عمل درآمہ کیا بائے گا اگر اکاؤٹٹ دیک کیا بیسی اور متعلقہ شوابلہ کے مطابق تمام پابندایوں سے آزاد ہو۔ ایک بار اکاؤٹٹ بند ہو جانے کے بعد اس سے مشکہ عدات خود مخود منوخ تجھی جائیں گی۔
- سملا صدف کے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) میں کی منگوک/و عوکہ دبی برخی فرانزیکشن (ٹرانزیکشنز) کی صورت میں اور ایابینک کی پالیبیوں، اور بیٹیک پر لاگو تمام مروجہ تو انہیں، عکو متی ایسیان میں ایابیت، اسٹیٹ بیٹک آف پاکتان کے ضوابط، قواعد، ہدایات، مر گزر، حکمناموں، فریا فوائیں در پیڈنٹ کر بعد پروڈ ممبر اکثر بیٹر باز کی ہدایات، مشتر کہ اکاؤنٹ ہولڈر اکو لڈرز کے بائین عزائد ہدی صورت میں، اور کی بھی ایسی راکاؤنٹس) کو باک کرنامناس سمجھے، صارف کو اطلاع دیے بھیرائ کے اکاؤنٹ کاآپریشن روئے کا افتیار دکھتا ہے۔ اکاؤنٹ آپریشن صرف بیٹک کے مکمل طور مطمئن ہونے کے بعد بحال کیا جائے گا۔ بیٹک کی جانب سے صارف کا اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) بلاک کرنے سے صارف کو ہونے والے کمی مکھند اند اسٹر کو بڑا کہ: اند بہ بہ بھی 2.0 نقصان کے لئے بینک ذمہ دار نہیں ہو گا۔
- صارف اس بات کافرار کرتاہے کہ وہاکاؤنٹ کو صرف شریعہ کے مطابق سر گرمیوں پاٹرانز یکٹنز کے لئے استعمال کرے گااور اس اکاؤنٹ سے کوئی خلاف شریعہ سر کری پاٹرانز پکٹن ٹمیس کرے گا۔
- اے ٹیاائم/ڈیٹ کے اچار گڑادڈ''کارڈ'''کارڈ''کارڈ''کارڈ''کارڈ'کی کیا تھا کہ گئا کئر گئا کہ اگریت کے اورائے کی بھی طریقہ سے خالف شریعہ اشیافندات (مقالی اور ٹین الا توای دونوں کڑئی) کی خریداری کے لئے استعمال میں کیا جائے گا۔ صارف ریزیڈٹ شریعہ بورڈ کی جانب سے حرام قرار دی جانے والیاشیا بیندمائٹ کیا معراض کا حق میں میں کہا۔ بینک اس بات کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ ووعدم کئیل کی صورت میں کارڈ کی سروس ختم کردے اور کیا گاؤنٹ بولڈر کے ساتھ کاروباری تعلقات منتقل کردے۔
- کارڈ پاچیک بک گم یا چوری ہوجانے کی صورت میں صارف اس چوری اگشدگی کی اطلاع فور پی طور پر بینک کے فراہم کر دو 4/7 2 کال سینٹر نمبر 92+) مر در بین به ایدورن دو بسی و در حاص مین از مدن کی اطلاع در در خود بین بین کا موده است کا موده است کا میز برخوا 125-3111131121 در 132-31111131111212(مین 14) مین بین بین بین بین بین بین بین کا میزود کا بین بین کا استفال کرے می کارڈ کو غیر فعال کرواملاء بین کی امراد کی کی کمشدگی باچر دی کی اطلاع بینک کوتا خیر سے دیتا ہے اور اس کی وجہ سے کمشدہ باچوری شدہ کارڈ کرچیک کا غیر مجازات تعالی سامنے آتا ہے توصارف اس کا ممل طور پر خورد در دار تو گا
- صارف اس بات کی رضامندی دیتا ہے کہ بینک صارف کواپئی پر دؤ کش اور خدمات کی تشہیر بذریعہ ایس ایم ایس،ای میل (ای میلز) اور دیگر ذرائع سے صارت الرباق فارتصاحد الدي كه ديتك ساور ولياني ودن الروطان على هم الروطان المساورة المساورة الموادرة الموادرة ال كم سلام به صارف آن بالم كم كم يا مجان شام المهام المهام المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والموادرات معلى مم مناور في كه يقد من كما تحصار مواصلات مي مناورة المؤلفة الم
- رس من کا معد رست کی میر ملکی (اوٹ دوڈ) اُر از یکش کی اجازت میں ہوگی،البند کارڈیر منی ٹین الاقوائی اُرازیکشنوکی اجازت ہوگی۔ ٹیں /ہم اس بات کاافر اور کرتاہوں اُرکے بین کہ غیر ملکی کر کئی من اُرازیکشنز صرف میر ہے/ہمارے ذاتی استعال کے لیے ہوں گی اور کار دباری مقاصد کے لئے استعال میں ہوں گی۔صارف اس بات کو شینی بنائے گا کہ اُرازیکشن سے بینک اور ایاسٹیٹ بینک آف یاکشان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات یا مقرره سالانه لمِٹ کی خلاف ورزی نہ ہو۔
- معرروسالانہ کی خالف ورز کرتہ ہو۔

 صارف ان کے طور پر اس بات کا افتاد ورز کرتہ ہو۔

 صارف ان کے خطر ان رائٹ کی خطر ساز رکتہ ہو۔

 مار کی ان کے خطر ان رائٹ کی جیل سازی کی خلیج کے خطر کے خطر کے خطر کے خطر سازی کہ اور ان کے خطر کے خطر سازی کہ ان کا محتول کے Phishing کا کہ اور ان کے خطر ک
- ا اگرافونٹ انٹیٹٹ یڈ رید ای میل بھیجی گئی ہوتو بھیجی گئی معلومات کے غاط استعالی: انکمل معلومات، غیر عواز فرد کی جانب ہے ای میل کے استعال، اکاؤنٹ انٹیٹٹ پر مشعمال کی میل کے جنگ ٹیل میں چلے جانے یادا ہی آجانے اگری جی ان وجہات کے باعث صارف کو ای میل نہ ملئے بشمول ای میل بھی میں جگہ نہ ہونے، سرور کی عدم دستایی کے باعث ای میل زید طبح کے لئے جیک کو ذمہ دار میں تخبر ایاجا سکا۔
 - ا کاؤنٹ صرف صارف کی جانب سے بینک کی مقررہ کم از کم ابتدائی رقم جمع کروانے پر کھلوا یاجا سکتاہے۔
- ا کاؤنٹ میں کریڈٹ اور ڈیب بیلنس کی زیادہ سے زیادہ ماہاند امٹ بینک کے موجود وپر دؤکٹ کے بنیادی حقائق نامہ کے مطابق ہونی چاہئے ، جو برانچوں میں اور ہینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ زیادہ ہے زیادہ ماہانہ لٹ سے زائد کی کس ٹرانز یکشن کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
- بینک، صارف کی اجازت کے بغیراس کے اکاؤنٹ ہے کی بھی قتم کے واجب الاوا اخراجات، فیمن، کمیشن، بشول شڈول آف چار جزش بیان کردہ چار جز کار کم منہم اگر سکتاہے ، تاہ فلتیکہ قانون، املیٹ بینک آف پاکستان/ویگر میلیویلیز کی جانب سے مستشیٰ ہوں۔ .32
 - ایک صارف صرف ایک میزان آسان اکاؤنٹ (واحدیامشتر که) کھلواسکتا ہے۔
- ۔ سکیورٹی وجوبات کی بیابر کارڈی موجود کی میں کی جانے والی بین الا قوامی/ہیر ون ملک ٹرانز یکشنز الینی کہ یوائٹ آف سل اس ٹی کیا کیا، کیش لکلواناو غیر ہ) کارڈیو غیر فعال کردی گئی ہیں۔ صارف بینک کال سینٹر پر دابطہ کر کے ایمی ٹرانز بیکشنز کو فعال کر واسکتا ہے۔ ایمی بین الا قوامی ٹرانز بیکشنز جن میں کارڈی موجود کی کی ضرورت نہیں، کارڈیم پہلے سے بین الا قوامی ٹرانز بیکشنز کے فعال ہیں۔
- ببینک صارف کو بینظگیا طلاع دے کر و قتأ فو قباً اور کسی بھی وقت ان شرا اَطَاد ضوابط اور / ہااکاؤنٹ (اکاؤنٹس) ہے متعلق خصوصیات اور خدمات اور بناکسی حد
- اس اکاؤنٹ محلوانے کے مطابق کھولے جانے والے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی تمام رقوم اور اس سے متعلق ہر قسم کی ٹرانز پیکشنز اکاؤنٹس اور خدمات کی شرائط وضوابط بیٹک کی پالیسیوں اور پابیٹک پر الا تو تام مروجہ قوا بین، اسٹیٹ بیٹک آف پاکستان کے ضوابط، فواہد، احکامات، مراسمات، احکامات، محتی قوا نین اور ان میں وقافو قاکی جانے والی تمام تراہم، بشر طیکہ دواسمایی شریعت سے متصادم ندہوں، کے مطابق ہوگی۔ تاہم کسی جمی تصاد کی صورت میں بیٹک کے دیز بیڈٹ شریعہ پورڈ مجم اکثر بعد پروڈی ہوایات کے مطابق اصلای شریعہ کے اصولوں کو تریج دی جا
- ا کاؤنٹ کی بندش سے متعلقہ قت 18 سے مشروط طور پر ، اگرواجب الادامنا خی ادر ایا اکاؤنٹ کا بندش سے مہم ہو تو میں اہم بینک کواس بات کا مجافز قرار دیناہوں ارسے بیاں کہ وہیر کی اندان کا جانب سے بیر ام مینک کے متطور کردہ تیر افی اداروں کو عطیہ کر دے (بینک ایک شریعہ کمیا نخت طریقہ کا رکاحال ہے جس کے تحت شریعہ کے اصولوں کے تحت چیر بین گفتیم کی جاتی ہے

 $DECLARATION\hbox{-} (Signature \ / \ Thumb\ Impression\ of\ all\ Applicants)$

اقرار نامہ (تمام درخواست گزاروں کے دستخط / انگوشھے کے نشان)

Signature Box

وستخطرخانه

I/We also confirm that I/we have read and understood the Terms and Conditions enclosed with this Account Opening Form and agree to be bound by them and any change/amendment to these shall be communicated by the Bank in advance by due notice to me/us. Furthermore, I/we acknowledge having received a copy of this Account Opening Form including its Terms & Conditions.